


08.12.2017

Counsel for the petitioner present. Mr. Usman Ghani, DDA for official respondent and submitted implementation report dated 08.11.2017. Learned counsel for the petitioner stated at the bar that petitioner is fully satisfied on the said order. Therefore the present execution petition is hereby disposed off. File be consigned to the record room.

**ANNOUNCED**

**08.12.2017**

  
(Gul Zeb Khan)  
Member (E)

04.08.2017

Counsel for the petitioner present. Mr. Muhammad Razziq, Head Constable alongwith Mr. Muhammad Adeel Butt, Additional AG for the respondents also present. Implementation report ~~is~~ not submitted by the respondents. Learned Additional AG requested for further adjournment. Adjourned. To come up for implementation report on 29.09.2017 before S.B.

  
(Muhammad Amin Khan Kundi)  
Member

29.09.2017


Learned Assistant Advocate General and representative of respondent department present, seeks adjournment. Adjourned. To come up for 20.10.2017 before S.B.


  
Member  
(Judicial)

20.10.2017

Counsel for the petitioner present. Mr. Kabir Ullah Khattak, Additional Advocate General <sup>along with</sup> Aziz Shah, Reader for the respondents present. The representative department is directed to produce conditional order on or before the next date of hearing. To come up for implementation report on 08.12.2017 before S.B.





Disposed of.



  
(Gul Zeb Khan)  
Member (E)

FORM OF ORDER SHEET

Execution Petition No. 78/2017

S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	03/05.2017	<p>The Execution Petition of Mr. Waqar Ahmad submitted to-day by Mr. Javed Iqbal Gulbela Advocate may be entered in the relevant Register and put up to the Court for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-	4/5/17	<p>This Execution Petition be put up before S. Bench on <del>8-5-17</del></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
	08.05.2017	<p>Counsel for the petitioner present. Notice be issued to the respondents. To come up for implementation report on 07.07.2017 before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> Chairman</p>
	07.07.2017	<p>Ms. Rooida, Advocate counsel for the petitioner present and submitted her Wakalatnama. The same is placed on record. Mr. Aziz Shah, Reader alongwith Mr. Kabirullah Khattak, Assistant AG for the respondents also present. Learned Assistant AG requested for adjournment. Adjourned. To come up for implementation report on 04.08.2017 before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> (Muhammad Amin Khan Kundi) Member</p>

**IN THE HON'BLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PAKHTUNKHWA**  
**PESHAWAR**

*Execution Petition no. 78/2017*

In the C.M No. \_\_\_\_\_/2017

In

S.A No. 424/2015

**Waqar Ahmad Ex-Sepoy**

**VERSUS**

**I.G. Police & others**

**Index**

<b>S#</b>	<b>Description of Documents</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
1	Application		1-2
2	Copies of S.A424/2015 and Judgment dated 28/03/2017	"A" & "B"	3-5
3	Wakalat Nama		6

Dated: 03/05/2017

Petitioner / Appellant

Through

**JAVED IQBAL GULBELA**

Advocate High Court

Peshawar.

(1)

**IN THE HON'BLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PAKHTUNKHWA**  
**PESHAWAR**

*Execution Petition No. 78/2017*

In the C.M No. \_\_\_\_\_/2017

In

S.A No. 424/2015

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Diary No. 355

Dated 3-5-17

**Waqar Ahmad Ex-Sepoy**

**VERSUS**

**I.G. Police & others**

**APPLICATION FOR IMPLEMENTATION OF THE**  
**JUDGMENT AND ORDER DATED 28/03/2017**  
**PASSED IN S.A.NO.424/2015.**

***Respectfully Sheweth,***

1. That the petitioner /appellant had filed a S.A.No.424/2015 which was allowed by this Hon'ble Tribunal vide judgment and order dated 28/03/2017. (Copies of S.A. and judgment dated 28/03/2017 are annexed as Annexure "A" & "B" respectively)
2. That the petitioner/appellant took the attested copy to the respondents, but till now has not implemented the judgment dated 28/03/2017.
3. That act of non-implementating the judgment of this Hon'ble Tribunal, constrained the petitioner/appellant to move the instant petition.

**Filed to-day**

**Registrar**

It is therefore, most humbly prayed that on acceptance of the instant petition, the respondents be directed to implement the judgment and order dated 28/03/2017 in S.A.No.424/2015 in its true spirit and further prayed that the responsible respondents be punished accordingly for this loathsome attitude and approach towards the reverend judgment and order of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 03/05/2017

Petitioner / Appellant  
Through  
**JAVED IQBAL GULBELA**  
Advocate High Court  
Peshawar

**Affidavit**

I, Waqar Ahmad Ex-Sepoy, Belt No.3785, R/o Ashab Baba Peshawar, do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the contents of the instant application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or misstated from this Hon'ble Court.

  
**Deponent**



(3) (8)

**BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTUNKHWA**  
**SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**



Service Appeal 424 /2015

K.W.F. Province  
Service Tribunal  
Diary No. 463  
Dated 07-5-2015

Waqar Ahmad Ex-Spepay, having belt No.3785, R/o  
Ashab Baba Peshawar.

.....Appellant

**VERSUS**

1. Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Chief Capital of Police, Officer Peshawar.
3. Senior Superintendent of Police, Hayatabad Peshawar.
4. Superintendent of Police, Head Quarter, Peshawar.
5. Deputy Superintendent of Police, Head Quarter Peshawar.

.....Respondents

**APPEAL U/S 4 OF THE KHYBER**  
**PAKHTUNKHWA SERVICE**  
**TRIBUNAL ACT-1974, FOR SETTING**  
**ASIDE THE IMPUGNED ORDER**  
**DATED 17-04-2015 OF THE LEANED**  
**RESPONDENT NO.1 WHEREBY**  
**DEPARTMENTAL APPEAL OF THE**  
**APPELLANT WAS DISMISSED IN A**  
**CURSORY MANNER**

Filed to-Reg  
Registered  
7/5/2015

re-submitted to-Reg  
and filed.

Registered  
11/10/15

*Respectfully Sheweth,*

**ATTESTED**

**ATTESTED**

1. That the Appellant is a naturally born citizen of the Islamic Republic of Pakistan and hails from District Peshawar.

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal  
Peshawar

9

Amir B



Sr. No

Date of order/proceedings

Order or other proceedings with signature of Judge or Magistrate

2

3

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Appeal No. 424/2015

Waqar Ahmad Versus Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and 4 others.

JUDGMENT

MUHAMMAD AZIM KHAN AFRIDI, CHAIRMAN:-

28.03.2017

Counsel for the appellant and Mr. Kabcerullah Khattak, Asstt. Advocate General alongwith Aziz Shah, H.C for respondents present.

2. Waqar Ahmad hereinafter referred to as the appellant has preferred the instant service appeal under Section 4 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act, 1974 against impugned order dated 06.06.2014 vide which he was dismissed from service and the period of alleged absence was treated as leave without pay and where-against his departmental appeal dated 10.06.2014 and departmental representation also rejected vide order dated 25.08.2014 and 17.04.2015 respectively and hence the instant service appeal on 07.05.2015.


3. Brief facts of the case of the appellant are that while serving as police personal he was found absent from duty and vide original order dated 06.06.2014 dismissed from service and period of his absence was treated as leave without pay.

ATTESTED

EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

ATTESTED





4. We have heard arguments of learned counsel for the parties and perused the record.

5. It is evident from the vary order passed by the competent authority and impugned before us that the absence period of the appellant was treated as leave without pay. In such eventuality the orders of dismissal from service of the appellant was not warranted as such an act on the part of the competent authority fall within the ambit of double jeopardy. Similar view was taken by this Tribunal in judgment dated 17.06.2016 in Service Appeal No. 1200/2014 titled "Azizur Rahman Versus Deputy Inspector General of Police, Mardan Region-1, Mardan and another".

6. For the above mentioned reasons we accept the present appeal and set aside the impugned order to the extent of dismissal of appellant from service and, as a consequence thereof, reinstate him in service by treating his period of absence from service w.e.f. the date of dismissal till date, as leave of the kind due. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

Announced  
28.03.2017

*Sd/- M. Azim Khan Afridi,*

*Chairman*

*Sd/- M. Amir Khan,*

*Member*

Certified true copy  
Khyber Pakhtunkhwa  
Services Tribunal,  
Peshawar

Date of Presentation of Application 03-04-2017  
Number of Words 1200  
Copying Fee 8.00  
Urgent 2.00  
Total 10.00  
Name of Copyist [Signature]  
Date of Completion of Copy 03-04-2017

*[Signature]*  
ACCEPTED

# وکالت نامہ

بعدالت: \_\_\_\_\_  
 عہدہ: \_\_\_\_\_ نام: \_\_\_\_\_  
 منجانب: \_\_\_\_\_ دعویٰ: \_\_\_\_\_  
 تاریخ: \_\_\_\_\_

باعت تحریر آنکہ مقدمہ مندرجہ بالا عنوان اپنی طرف سے واسطے پیروی و جوابدہی  
 بمقام \_\_\_\_\_ کیلئے جاوید اقبال گل بیلہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کوہاٹ میں شرط وکیل  
 مقرر کیا ہے۔ کہ میں ہر پیشی کا خود یا بزرگیہ مختار خاص رو برو عدالت حاضر ہوتا رہوں گا۔ اور بوقت پکارے جانے مقدمہ وکیل  
 صاحب موصوف کو اطلاع دے کر حاضر عدالت کرونگا، اگر پیشی پر من مظہر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے  
 کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہونگے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر  
 مقام پچہری کی کسی اور جگہ یا پچہری کے مقررہ اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل پیروی کرنے کے ذمہ دار نہ ہونگے۔ اگر  
 مقدمہ علاوہ صدر مقام پچہری کے کسی اور جگہ سماعت ہونے یا بروز تعطیل یا پچہری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر  
 من مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا مختار نہ واپس کرنے کے بھی  
 صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہونگے۔ مجھے کوکل ساختہ پر داختہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور  
 صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ و جواب دعویٰ اور درخواست اجراءے ڈگری و نظر ثانی اپیل و نگرانی ہر قسم کی درخواست پر دستخط و  
 تصدیق کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور کسی حکم یا ڈگری کے اجراء کرنے اور ہر قسم کے روپیہ وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل  
 کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور سپروٹائشی و راضی نامہ فیصلہ برخلاف کرنے اقبال دعویٰ دینے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور  
 بصورت اپیل و برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری یکطرفہ درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گرفتاری قبل از اجراء ڈگری بھی موصوف  
 کو بشرط ادا تنگی علیحدہ مختار نہ پیروی کا اختیار ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو بھی اختیار ہوگا یا مقدمہ مذکورہ یا  
 اس کے کسی جزوی کاروائی کے واسطے یا بصورت اپیل، اپیل کے واسطے دوسرے وکیل یا بیرسٹر کو بجائے اپنے یا اپنے ہمراہ  
 مقرر کریں اور ایسے مشیر قانون کے ہمراہ رہیں اور ویسے ہی اختیارات حاصل ہونگے جیسے کے صاحب موصوف کو حاصل  
 ہیں۔ اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ التواء پڑے گا۔ اور صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ اگر وکیل صاحب موصوف کو  
 پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کرونگا تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ مقدمہ کی پیروی نہ کریں اور ایسی صورت  
 میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔ لہذا مختار نامہ لکھ دیا کہ سند رہے۔  
 مورخہ \_\_\_\_\_ مضمون مختار نامہ سن لیا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

جاوید اقبال گل بیلہ  
 ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کوہاٹ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10	R.D. SOCIAL JUSTICE	5197
N. D. Khan	ایڈووکیٹ:	
	بار کونسل ایسوسی ایشن نمبر:	
	رابطہ نمبر:	

پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخوا

Before the Court of Service Tribunal KPK Pesh  
بعدالت جناب:

منجانب: سائل	دعوی:
وقار	علت نمبر:
بنام	مورخہ:
پولیس	جرم:
Department of Government	تھانہ:

**بابت تحریر آنگہ**

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کارروائی متعلقہ  
آن مقام۔ کیلئے رولنگ کے اہم مسائل اینڈ وکیل کو وکیل مقرر  
کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو  
راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف دینے جواب دعوی اقبال دعوی اور درخواست از ہر قسم کی تصدیق  
زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری کی طرف سے یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز  
دار کرنے اپیل نگرانی و نظرتانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی  
کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب  
مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ با اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داخستہ منظور و قبول ہوگا  
دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانبہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا حد سے  
باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کریں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے  
المرقوم:

SHAWAR BAR SOCIETY  
KHYBER

العبد \_\_\_\_\_ واہ شد \_\_\_\_\_ العبد  
مقام \_\_\_\_\_ کے لیے منظور ہے۔

Accepted by  
Roshan  
Khan